



## SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

Press Release  
For immediate Release  
November 18, 2016

### **SECP takes action against companies resorting to market abuse**

ISLAMABAD, November 18: In order to protect investors from market abuse, the stock market surveillance team of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has sought explanations from those companies experiencing hike in share price and/or traded volume. Disclosure of such explanation helps clarify if such a movement is attributable to the prospects of the company or it is merely based on rumors.

The SECP team seeks such explanations from the listed companies on an ongoing basis under Section 97 of the Securities Act, 2015. This section requires the listed companies facing unusual trading activity to disclose to the general public details of any development known to the company which could explain the unusual price movement and traded volume.

While seeking such explanations remains an ongoing exercise, most recently SECP has sought explanation regarding hike in price and/or traded volume from nine listed companies. In alphabetical order, these are Aruj Industries Limited; Hussain Sugar Mills Limited; KSB Pumps Company Limited; Merit Packaging Limited; Nazir Cotton Mills Limited; National Silk & Rayon Mills Limited; Sargodha Spinning Mills Limited; United Distributors Pakistan Limited and Khyber Textile Mills Limited. All of them, except one, have shared their response and the same is made public through PSX Notices on PSX's webpage.

Investors are advised to exercise great caution before investing in the shares of a company that has no explanation for a surge in its stock price or traded volume. Investors should take into account, announcement made by the companies and PSX, while making investment decisions. Further, SECP has approached FIA to take action against those who are spreading rumors about listed companies through social media.

SECP has shared complete information of some individuals who have been engaged in such malicious activities on social media, most notably Facebook. The FIA has been requested to take all necessary actions including blocking of these Facebook accounts and to take cognizance of such activities under cybercrime laws.

SECP has also placed a link on PSX's website which warns the investors from taking investment decision based on hearsay, rumors, and tips/advice disseminated by unregulated persons through various social media networks. Zafar Hijazi, Chairman SECP, emphasized that individual investors should preferably invest through mutual funds, which provide a safe and profitable avenue for investing in the stock market. Investors should avoid leveraged speculation in stocks based on rumours as it will likely result in large losses.

## ایس ای سی پی کی مارکیٹ کا غلط استعمال کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی

اسلام آباد، ۱۸ نومبر: سرمایہ کاروں کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے غلط استعمال سے بچانے کے لئے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی مارکیٹ سرویلنس ٹیم نے ان کمپنیوں سے وضاحت طلب کر لی جن کے حصص کی قیمتوں اور/یا تجارتی حجم میں اچانک اضافہ ہوا ہو۔ ایسی جواب طلبی یہ واضح کرنے میں مدد دے گی کہ یہ اضافہ کمپنی کی قدر میں اضافہ کے باعث ہے یا محض افواہوں پر مبنی ہے۔ سکیورٹیز ایکٹ، ۲۰۱۵ کی دفعہ ۹۷ کے تحت ایس ای سی پی لسٹڈ کمپنیوں سے ایسی وضاحتیں بدستور طلب کرتا رہتا ہے۔ اس دفعہ کے مطلوبات میں یہ بھی شامل ہے کہ غیر معمولی تجارتی سرگرمیوں کا سامنہ کرنے والی لسٹڈ کمپنیاں عوام الناس کو قیمتوں اور تجارتی حجم میں غیر معمولی اضافے سے متعلق وہ تمام تفصیلات بتائیں جو کمپنی کے علم میں ہوں۔

ایسی وضاحتیں طلب کرنا ایک مسلسل عمل ہے، حال ہی میں ایس ای سی پی نے نو کمپنیوں سے وضاحت طلب کی ہے جن کے حصص کی قیمتوں اور/یا تجارتی حجم میں اچانک اضافہ ہوا۔ ان کمپنیوں میں اروج انڈسٹریز لمیٹڈ؛ حسین شگر ملز لمیٹڈ؛ کے ایس بی پمپس کمپنی لمیٹڈ؛ میرٹ پیکنگ لمیٹڈ؛ نذیر کاٹن ملز لمیٹڈ؛ نیشنل سلک اینڈ رے آن ملز لمیٹڈ؛ سرگودھا سپنگ ملز لمیٹڈ؛ یونائیٹڈ ڈسٹری بیوٹرز پاکستان لمیٹڈ اور خیبر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ شامل ہیں۔ ان میں سے ایک کے علاوہ باقی تمام نے اپنے جوابات جمع کرائے ہیں اور انہیں پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پر پی ایس ایکس نوٹسز کے ذریعے عام بھی کر دیا گیا ہے۔ سرمایہ کاروں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ ایسی کمپنی جن کے حصص کی قیمتوں یا تجارتی حجم میں بغیر کسی وضاحت کے اچانک اضافہ ہو جائے میں سرمایہ کاری کرنے سے اجتناب کریں۔ انہیں چاہئے کہ وہ سرمایہ کاری کے فیصلے کرتے وقت کمپنیوں اور پی ایس ایکس کی جانب سے کئے جانے والے اعلانات کو بھی سامنے رکھیں۔

ایس ای سی پی نے ایف آئی اے سے بھی رابطہ کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کے بارے میں افواہیں

پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ ایس ای سی پی نے ایسی مخصوص سرگرمیوں میں ملوث چند افراد کی تفصیلات بھی ایف آئی اے کو دی ہیں۔ ایف آئی اے سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ سائبر کرائم کے قوانین کے تحت ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان کے اکاؤنٹس کو بلاک کیا جائے۔ ایس ای سی پی نے پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پر ایک لنک رکھا ہے جس میں سرمایہ کاروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کے فیصلے لیتے وقت سنی سنائی باتوں، افواہوں اور غیر متعلقہ اشخاص کی جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی معلومات/اشاروں سے اجتناب کریں۔

ایس ای سی پی کے چیئرمین جناب ظفر حجازی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انفرادی سرمایہ کاروں کو میوچل فنڈز کے ذریعے سرمایہ کاری کرنی چاہئے، جو کہ سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرنے کا ایک محفوظ اور منافع بخش طریقہ ہے۔ سرمایہ کاروں کو چاہئے کہ وہ حصص میں افواہوں پر مبنی قیاس آرائیوں سے دور رہیں کیونکہ ان کا نتیجہ عموماً بھاری نقصان کی صورت میں نکلتا ہے۔